

نئے امیگریشن کرنے والوں کے لئے فیملی مینٹی ننس کے حقائق کا پرچہ



کیا آپ کو چائلڈ سپورٹ میں مدد چاہیئے؟

جب والدین طلاق لیتے ہیں یا علیحدہ ہو جاتے ہیں تو برٹش کولمبیا فیملی لا بچوں کے بہترین انٹرسٹ کو سب سے زیادہ دھیان میں رکھتا ہے۔ اس کامطلب ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے لئے معاشی مدد جاری رکھنا ہوتی ہے چاہے وہ ساتھ نہ بھی رہتے ہوں۔

بعض اوقات والدین اپنے چائلڈ سپورٹ آرڈر کے تحت ذمہ داریاں نہیں نبھاتے۔ جب چائلڈ سپورٹ حاصل کرنے میں مسائل ہوں تو گھر والے فیملی مینٹی ننس حکم لاگو کرنے کے پروگرام سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فیملی مینٹی ننس اینفورسمنٹ پروگرام کے پاس قانونی طاقت ہوتی ہے تاکہ بقایا سپورٹ پیمنٹ وصول کر سکیں۔ مثلاً وہ ملازمت دینے والے سے والدین کی تنخواہ میں سے براہ راست ادائیگی کی کٹوتی کروا سکتے ہیں۔

اس مفت پروگرام میں شمولیت کے لئے پہلے والدین کے پاس لیگل سپورٹ آرڈر یا سپورٹ کا اقرار نامہ ضروری ہے جو کہ برٹش کولمبیا کورٹ میں جمع کرایا جا چکا ہو۔ چائلڈ سپورٹ آرڈر یا سپورٹ کا اقرار نامہ حاصل کرنے میں مدد کے لئے گھر والوں کو ماہرانا قانونی مدد یا صلاح لینا چاہیئے۔ فیملی جسٹس سینٹر معلومات اور مدد دے سکتے ہیں۔ فیملی مینٹی ننس اینفورسمنٹ پروگرام کے پاس قانونی مدد یا چائلڈ سپورٹ آرڈرز دینے کی اہلیت نہیں ہے۔

بعض اوقات والدین میں سے ایک برٹش کولمبیا سے باہر رہتا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس تمام دوسرے صوبوں اور کئی غیر ممالک کے ساتھ مراسم ہیں تاکہ چائلڈ سپورٹ کی چائلڈ سپورٹ کی ذمہ داریوں کا تعاقب کیا جا سکے۔ ایک الگ حقائق کا پرچہ : **چائلڈ سپورٹ حاصل کرنا جب کہ والدین میں سے ایک برٹش کولمبیا سے باہر ہو** میں مختلف صوبوں اور ممالک کے ناموں کی لسٹ شامل ہے جن کے ساتھ یہ مراسم ہیں۔

آپ فیملی مینٹی ننس اینفورسمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں یا www.fmep.gov.bc.ca پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا 604-678-5670 پر وینکور میں اور لوور مین لینڈ، وکٹوریہ میں 250-220-4040 یا شمال اور اندرون علاقوں میں 250-434-6020 پر فون کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔